

## الْحَجْر

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الرَّافِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾  
الذ۔ یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾  
کسی وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش ہوتے وہ مسلمان۔

ذُرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾  
چھوڑ دو انہیں کھائیں اور برت لیں اور مشغول رکھیں انکو آرزوئیں عنقریب وہ جان لیں گے۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَلَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾  
اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لئے لکھا ہوا تھا وقت مقرر۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا نَهَ آگے نکل سکتی ہے کوئی امت اپنی مدت

مقررہ سے اور نہ ہی وہ تاخیر کر سکتے ہیں۔

يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾

اور کہا انہوں نے اے شخص نازل کی گئی ہے جس پر کتاب نصیحت یقیناً تو دیوانہ ہے۔

وَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ  
الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے پھول میں۔

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ اور نہیں ہونگے وہ اس وقت مہلت پانے والے۔

مَا نُزِّلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا  
كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

بیشک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت اور یقیناً ہم اسکے نگہبان ہیں۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ  
لَحَفِظُونَ ﴿٩﴾

اور یقیناً بھیجے تھے رسول ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں میں۔

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ  
الْأُولَئِينَ ﴿١٠﴾

اور نہیں آتا تھا انکے پاس کوئی رسول مگر وہ اسکے ساتھ ہنسی کرتے تھے۔

وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾  
اسی طرح ڈالے رکھتے ہیں ہم (یہ گستاخی)  
دلوں میں مجرموں کے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْهُ  
الْأُولَئِينَ ﴿١٣﴾  
نہیں وہ ایمان لاتے اس پر۔ اور بیشک یہی  
رہی ہے روش پہلے لوگوں کی۔

و لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ  
فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾  
اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازہ آسمان کا پھر وہ  
لگیں اس میں چڑھنے۔

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ  
نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾  
تو وہ کہیں در حقیقت باندھ دی گئی ہیں ہماری  
آنکھیں بلکہ ہم وہ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔

و لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا  
وَزَيْنًا لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٦﴾  
اور بیشک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں بروج  
اور سجا دیا ہے اسکو دیکھنے والوں کے لئے۔

و حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ  
رَّاجِمٍ ﴿١٧﴾  
اور محفوظ کر دیا ہے ہم نے اسے ہر شیطان سے  
جو مردود ہے۔

إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ  
شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾  
مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے تو پیچھے لپکتا  
ہے اسکے ایک روشن انگارہ۔

اور زمین کہ پھیلا دیا ہے ہم نے اسکو اور ڈال دیئے ہم نے اس پر پہاڑ اور اگائی ہم نے اس میں ہر ایک چیز مناسب مقدار سے۔

وَ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

اور بنائے ہم نے تمہارے لئے اس میں سامان معاش اور انکے لئے نہیں ہو تم جنکے رازق۔

وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس میں اسکے خزانے۔ اور نہیں نازل کرتے ہم اسکو مگر ایک مناسب مقدار میں۔

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾

اور ہم نے بھیجیں ہوائیں (پانی سے) لدی ہوئی پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی پھر پلایا اسے ہم نے تلو۔ اور نہیں تم اسکا خزانہ رکھتے۔

وَ أَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

اور یقیناً ہم ہی ہیں جو حیات بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔

وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

اور یقیناً ہمکو معلوم ہیں جو پہلے گذر چکے ہیں تم میں اور یقیناً ہمکو معلوم ہیں بعد میں آنے والے۔

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

اور یقیناً تیرا رب ہی جمع کرے گا ان سب کو۔  
یقیناً وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ

اور بیشک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو  
کھنکھناتے سرے ہونے گارے سے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ  
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

اور جنات کہ پیدا کیا تھا ہم نے انکو اس  
سے پہلے آگ سے بے دھوئیں کی۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ  
السَّمُومِ

اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے  
کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں ایک بشر  
کھنکھناتے سرے ہونے گارے سے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي  
خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ  
مَّسْنُونٍ

تو جب اسکو درست کر لوں اور پھونک دوں اس  
میں اپنی روح تو گر پڑنا اسکے لئے سجدے میں۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ  
رُّوْحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ

تو سجدے میں گر پڑے فرشتے سب کے سب۔

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

سوائے ابلیس کے۔ انکار کیا اس نے کہ وہ ہوتا  
سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔

إِلَّا إِبْلِيسَ ابَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ  
السَّٰجِدِينَ



فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں۔

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ  
مَعَ السَّجِدِيْنَ ﴿٢٢﴾

اس نے کہا نہیں میں ایسا کہ سجدہ کروں ایک بشر کو بنایا ہے تو نے جس کو کھٹکھٹاتے سر سے ہونے گارے سے۔

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاسْجُدَ لِبَشَرٍ  
خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ  
مَّسْنُوْنَ ﴿٢٣﴾

فرمایا تو نکل جا یہاں سے بیشک تو مردود ہے۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَاجِيْمٌ ﴿٢٤﴾

اور یقیناً تجھ پر لعنت ہوگی انصاف کے دن تک۔

وَ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلَى يَوْمِ  
الدِّيْنِ ﴿٢٥﴾

اس نے کہا میرے رب مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلَى يَوْمِ  
يُبْعَثُوْنَ ﴿٢٦﴾

فرمایا بیشک تو مہلت دیے جانے والوں میں ہے۔

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٢٧﴾

اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔

اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٢٨﴾

اس نے کہا میرے رب چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے میں ضرور آرائش کروں گا انکے لئے

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لِاُزَيِّنَنَّ  
لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ لْاُغْوِيَنَّهُمْ

زمین میں اور ضرور بہکاوں گا انہیں سب کو۔

أَجْمَعِينَ<sup>۴۳</sup>

مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص۔

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ<sup>۴۴</sup>

فرمایا کہ یہی ہے راستہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ<sup>۴۵</sup>

بیشک میرے بندے کہ نہیں تجھے انہر قدرت  
مگر جو تیری اطاعت کرے بدراہوں میں سے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ  
إِلَّا مَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْغَوِينَ<sup>۴۶</sup>

اور بیشک جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ  
سب کی اکھٹی۔

وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ  
أَجْمَعِينَ<sup>۴۷</sup>

اسکے سات دروازے ہیں۔ ہر ایک دروازے  
کے لئے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ  
جُزْءٌ مَّقْسُومٌ<sup>۴۸</sup>

بیشک متقی ہونگے باغوں میں اور چشموں میں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ<sup>۴۹</sup>

داخل ہوجاؤ انہیں سلامتی کے ساتھ امن سے۔

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ<sup>۵۰</sup>

اور نکال دیں گے ہم جو انکے دلوں میں ہوگی  
کوئی کدورت بھائیوں کی طرح مسندوں پر ایک  
دوسرے کے سامنے بیٹھے ہونگے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ  
إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ<sup>۵۱</sup>

نہ پہنچے گی انکو وہاں کوئی تکلیف اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بیشک میں ہی ہوں بہت بخشے والا بہت رحم کرنیوالا۔

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

اور احوال سنا دو انکو ابراہیم کے مہانوں کا۔

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

جب وہ آئے اس کے پاس تو کہا انہوں نے سلام۔ اسے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

کہا انہوں نے نہیں ڈرو یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک دانشمند لڑکے کی۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْمِ ﴿٥٣﴾

کہا اسے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے اسپر کہ آپکو بڑا مجھے بڑھاپے نے تو کیسی خوشخبری دیتے ہو۔

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

انہوں نے کہا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ سونہ ہونا امیدوں میں سے۔

قَالُوا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾



اس نے کہا اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی سوائے گمراہوں کے۔

قَالَ وَ مَنْ يَّقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

اس نے کہا پس کیا ہے تمہارا کام اے بھیجے ہوئے (فرشتوں)۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

انہوں نے کہا بیشک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہیں۔

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

مگر لوط کے گھروالے۔ بیشک ہم بچالیں گے انہیں سب کو۔

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

البتہ اسکی بیوی کہ ٹھہرا دیا ہے ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی ان میں جو پیچھے رہ جائیوا لے ہونگے۔

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

کہا اس نے یقیناً تم لوگ ہونا آشنا سے۔

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ ﴿٦٢﴾

انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ چیز یہ تھے جس میں شک کرتے۔

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

اور آنے میں ہم تیرے پاس یقینی بات لے کر  
اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں۔

وَ اتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا  
لَصٰدِقُوْنَ ﴿٢٤﴾

تو چل پڑو اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات  
رہے اور خود چلو انکے پیچھے اور نہ مڑ کر دیکھے تم  
میں سے کوئی بھی۔ اور چلے جاؤ جہاں حکم ہو۔

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَ اتَّبِعْ  
اَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ  
وَ اَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

اور ہم نے بھیج دیا اسکی طرف یہ فیصلہ کہ جہاں  
لوگوں کی کاٹ دی جائیگی صبح ہوتے ہوتے۔

وَ قَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنْ دَابِرَ  
هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٢٦﴾

اور دوڑے آنے اہل شہر خوشیاں مناتے  
ہوئے۔

وَ جَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ  
يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

اس نے کہا کہ یہ میں میرے مہمان تو نہ رسوا  
کرو مجھے۔

قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَعِيفِيْ  
تَفْضَحُوْنَ ﴿٢٨﴾

اور ڈرو اللہ سے۔ اور نہ بے آبرو کرو مجھے۔

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزَوْنَ ﴿٢٩﴾

انہوں نے کہا اور کیا نہیں منع کیا ہم نے تلو  
سارے جہاں (کی حمایت) سے۔

قَالُوْا اَوْلَمْ نَّنْهٰكَ  
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

اس نے کہا یہ میں میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے۔

قَالَ هُوَآءِ بَنِيَّ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ ط  
٧١

قسم ہے تمہاری جان کی یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ط  
٧٢

سو آپکڑا انکو ایک چنگھاڑنے سورج نکلتے نکلتے۔

فَاَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ط  
٧٣

تو کر دیا ہم نے اس (بستی) کے اوپر کوالٹ کر نیچے۔ اور برساتیں ہم نے انپر پتھریاں کھنگر کی۔

فَجَعَلْنَا عَلٰیهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ط  
٧٤

بیشک اس میں ہے بڑی نشانی اہل بصیرت کے لئے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ط  
٧٥

اور بیشک وہ (بستی) ہے سیدھے رستے پر۔

وَ اِنَّهَا لِبِسْبِیْلِ مُّقِيْمٍ ط  
٧٦

بیشک اسمیں ہے بڑی نشانی ایمان والوں کیلئے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ط  
٧٧

اور یقیناً تھے ایکہ کے رہنے والے (قوم شعیب) سخت ظالم۔

وَ اِنْ كَانَ اَصْحَبُ الْاٰیِكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ط  
٧٨

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ اِهْمَا لِبِاَمَامِ  
مُبِينِ ٧٦

تو بدلہ لیا ہم نے ان سے اور یہ دونوں  
(بستیاں) میں کھلے راستے پر۔

وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ  
الْمُرْسَلِينَ ٨٠

اور یقیناً تکذیب کی وادی حجر کے رہنے والوں  
نے رسولوں کی۔

وَ اتَيْنَهُمْ اَيَّتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا  
مُعْرِضِينَ ٨١

اور دیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو وہ رہے  
ان سے منہ پھیرتے۔

وَ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ  
بُيُوتًا اَمِينًا ٨٢

اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں گھر امن و  
اطمینان سے۔

فَاَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ٨٣

تو آپکڑا ان کو زوردار آواز نے صبح ہوتے ہوتے۔

فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ٨٤

اور نہ فائدہ دے سکے ان کو جو کچھ کام وہ کیا  
کرتے تھے۔

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضَ  
وَ مَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اِنَّ  
السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاَصْفَحِ الصَّفْحَ

اور نہیں پیدا کیا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو  
اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مگر حق کے  
ساتھ۔ اور یقیناً قیامت ضرور آکر رہے گی تو

الْجَمِيلُ ﴿٨٥﴾

درگذر کر و تم ایک اچھے طریقہ کا درگذر۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

یقیناً تیرا رب ہی پیدا کر نیوالا جاننے والا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

اور یقیناً عطا کی ہیں ہم نے تم کو سات (آیات) بار بار دھرانے والی (فاتحہ) اور قرآن عظیم۔

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

نہ راغب ہو جائیں تمہاری آنکھیں اسکی طرف جس فوائد دنیاوی سے نوازا ہے ہم نے مختلف جامعوں کو ان میں سے اور نہ رنج کرنا ان پر اور جھکانے رکھنا اپنے بازو مومنوں کے لئے۔

وَقُلْ إِنِّيَ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

اور کہ دو یقیناً میں ہوں ڈر سنانے والا واضح طور پر۔

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

جس طرح نازل کیا ہم نے تقسیم کرنیوالوں پر۔

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

جنہوں نے کر ڈالا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

سو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور پرش کریں گے ان سب سے۔

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

جو کچھ وہ کرتے رہے۔



پس بے دھڑک سنا دو وہ جس کا تم کو حکم ملا ہے  
اور اعراض کرو مشرکوں سے۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ  
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

یقیناً ہم کافی ہیں تمہیں ہنسی کرنیوالوں پر۔

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٥﴾

وہ لوگ جو قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود  
دوسرے۔ سو عنقریب انکو معلوم ہو جائے گا۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے تمہارا  
دل اس سے جو یہ کہتے ہیں۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ  
بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾

تو تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ اپنے رب کی  
اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ  
السَّاجِدِينَ ﴿١٨﴾

اور عبادت کئے جاؤ اپنے رب کی یہاں تک  
کہ آجائے تمہارے پاس امر یقینی (موت)۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ  
الْيَقِينُ ﴿١٩﴾

